

5th April 1952.

*Report of the Committee
of H. S. C. Examination.*

प्रणिथा गोप्ता, वर पांधुरण मालव्याचा । नरभूत वेत लाहे. गामके जे धोटाचे ॥

किंतु कानी आपल्या भाषणातून परीक्षेत्र वसणाऱ्या आपल्या नावलगांचा अुलोड करा पण भागा ठार करा परीक्षेला दिलेली नाही. तरी पण या नावल चिन्हांच्यावरीलदा अडी, न लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. जदा चिन्हांच्यांती दिवसमधेर अपार्टमेंट राहून अभ्यास केला अशेह त्याचे हाल काय असतील याची आपण कल्पनाचे केलेली वरी. मी वेशील पुण्यात सभासदांना चांगल्या प्रकारे झोळवतो. घाडयाने जेवण बोलेवर न आणले क्षर ते खितके संतापतात की काही सामावयव सराई.

अवी चूक पुन्हा होई तये असे काही तरी कडक नियंत्रण भरले पाहिजे. आज ऐपर कुट्टेल शुद्ध सुरक्षा जातील, परका टेबल जातील, असे होई नये. नास्या मत्ते ति पश्चातीची कीलकी व्हावयाळ पाहिजे, व किंवदन त्यातील करिता त्यार भरले तर ते त्याकर पड्डा टाकु थिंचित्ताति असा याचव अर्थ होतो.

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣದೇವಿ (ನರಸ್ಯಾಂಶ)

ప్రాణికండల విషయము

ప్రార్థనల ప్రాయముల కషే మెదటసందర్భమై. అపటికి తీవ్రక ఒక కమిశన్ కుర్చుని తల్లి ఏడియ కొత్తస్తిలుపులకు వీటింటాని లేకు కావునున్నారు.

شہر یعنی شانہ بانی (مکتہل - آنما کو ر - عام) - مسٹر ایکٹھر سر - ایوزشن کے
بھائی یہ الگوریتمت موشن نئے ہیں - میں تھوڑی گز فرم ہو ملے تو اسے دیتا نہیں
پیش - ہاری حکومت اول، درجیہ سے دیکھیے والی ہے۔ میں پڑا تھا کہنے ہوں کہ
امپھورہ نئے موشن لواپس نہیں ہے ہمارے جو بچے میٹرک میں پڑھ رہے ہیں ہم کو انکا
درود ہے بلکہ آپ سے زیاد ہے۔ بچے کا درد یا پ کے مقابلہ میں سی کو زیادہ ہوتا ہے
جس خارے ہر ہیں - جس بچہ جو گزر تو اسچان ایک سوچ لے تو لکھ رہا ہے اگر

Discussion on the Adjournment Motion regarding Postponement of H. S. C. Examination

ج کہتے ہیں کہ جو بچے چوری کرتے ہیں وہ تو سو بارک امتحنے دیں
ل موتلے یہوں کے جو سی ہو گئی ہے۔ ہماری گجرائی میں ایسا یہی ہونا
امراوضہ مانگ رہے ہیں وہ محاوونہ نہیں مل سکتا۔ جسے اپنی تو دریا میں
ڈالے ہیں۔ لٹا یا تھے کیا معلوم۔ تم اپنی کیسمی شوائیں نہ لائیں۔ جب کوئی نہیں
بے آئی تو مانگنے سے ہلے ہی ہم خود پلا کر بچوں کو دیدھنگے۔

بیت آپ ہے پر ارتھنا کرنے ہوئے کہ اچھر تک شہنشہ موشن واپس لئے گیں۔

✓ శ్రీమతి అప్పగె కసులాదేవి (అరెస్ట) ✗

విల్కారంగాలు

श्री. नाथवराह प्रोफेटी कर (बुद्धीर एनरल): अध्यक्ष मंडीदव, जिस प्रस्ताव पर उमीद लगी है। और इस को जिम्मेदारी के बाद, गवर्नरेट पर ही ढाकी जाएगी है। इन्हें के भाई जिस की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग पर आतहे हैं। इनमें से वह बहुतांग कि लोकप्रिय नागरिक का बतौर्य है कि वह अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। हम मानते हैं कि किन्तु कि लालूच से लाकर ही पेरर आउट (Out) कर दिये होंगे। लेकिन आपको वह मत नहीं पड़ेगा कि जिस को पैसा देनेवाला भी यहों का कोई नागरिक ही होगा। कह अपने ही अंसे नागरिकों से नहीं होगा। जो विना कष्ट अदाके अपने बच्चों से पास कराना चाहते हैं। जिस पर जियादा बढ़क लगनेवाली अवश्यकता नहीं। जिसतरह नक्काशेट जित गलती की जाएगी है, जिसतरह जलता जाएगा जिम्मेदार है। जाइए हूँ कि जिल्हों पर शिक्षा संकी तो परवेद दरकारीय करने नहीं गये थे। अंक कमिशन के जरिये तहकिकात का सुतालिवा विरोधी पक्षकी जानिवारी विद्या आ रहा है। आप यह तो देखते हैं कि हमारी सरकार स्थापित होएर केवल १५-२० रोज़ डूजे हैं। जिस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं। अब लकड़ में जो तहकिकात हो रही है कर्व से कल जिस के रिसल्ट (Result) को तो सामने आजाने देंगिये। अगर जिसमें कोई भी अंतवारी होती जनता के कठिनान की भाँति लगता रहेगा है।

وہ جائے۔ شنکر جی نے تھا ستو () کہتے ہی بھاسور نے کہا اس
روز ایسے () پر تم () آپ کے اوپر کرو تو کہ تم ڈریں
مگر جی کیلاں کے طرف بیا گئے لگے۔ بالکل ایسا ہی یہاں ہو رہا ہے۔ یہ حکومت
اپ ہی لوگوں کی ہے۔ آپ کو مٹھنے دل سے سوچنا چاہئے۔ حکومت کو اچھی طرح
کہ چلے کا موقع دیا جانا چاہئے۔ ایسا ہو تو پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا
وقت آجائے تو ہوم منسٹر خود کہتے ہیں کہ میں پولیس کو کم کر دوں گا۔ حیدر آباد
میں عوام کا راج فائم ہونے کے بعد چیف منسٹر۔ ہوم منسٹر اور فینانس منسٹر کو یہ
ذکر ہوئی کہ ہر طرح کی بیماریوں کو یہاں سے دور کرنا چاہئے۔ بہت سی بیماریاں یہاں تھیں۔
یہ اور دوسری بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ فینانس منسٹر نے اس کا خیال کر کے لا کو
روپیہ کی منظوری دواؤں کے لئے دی۔ اس ہبوان میں ہم جتنا کی بھلانی کے لئے آئے ہیں۔
مکتو چاہئے کہ اختلافات میں نہ پڑیں۔ کسی کام کو کرنے کے لئے کچھ دیر ہوئے ہے۔
میں ماتی ہوں کہ دیر ہوتی ہے۔ مگر یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ لڑکی اپنی ساتا سے
کہنی ہے کہ کل میں کھنی کھائی تھیں آج موئی سکیوں نیبی ہوئی۔ ہندوستان کو آزادی
ملکر ملائے تین دن ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دو چار روز میں شب حالت
زمت ہو جائے تو غور کرنا چاہئے کہ یہ کس طرح مسکن ہو سکتا ہے؟ میں امید کرتی
ہوں کہ میرے اپوریشن بھائی اس پر غور کر کے اپنے کٹ موشنس کو واپس لینگے۔ اتنا
کہنے کے بعد میں اپنا کٹ موشن واپس لیتی ہوں۔

شہری سرجن اس راؤ اکھیلیکر (ہنایاد - عام) - مسٹر اسپیکر سے - جتنے وکوں کی خواص ہے یہ کہاں مگر ہے تھے ۲۰۰۷ء میں یوپیس کا بیٹھ ۲۵۰۰ میں میں دیکھ ملا تو کوئی لوگوں کو بلاخی کی وجہ سے اغفارہ ہوا ہے - یہ کہاں ہے کہ ملٹری اور فوج رہنی کے باوجودہ کامبیلوں کی تعداد میں دوبارہ اغفارہ ہوا ہے - اسی پر بھیت ہوئی بیٹھ ہے - لیکن حقیقت میں یوپیس پور خرج ہیئی - مدرس اس - مددیہ پردش سے کم ہے - ابوزین بنچس کے ابک دوست نے کہا کہ پہلک بھیت آئے کے بعد اس میں نہ بدلیں تھیں ہیئی - مگر وہ سال پہ کروڑ ۲۰ لاکھ کا بیٹھ تھا - اب . ۳۳۰ لاکھ کا بھیت ہے - کیا یہ کوئی شدید نہیں ہے؟ سنہ ۲۰۰۷ء میں ہے ہزار ۴۱۷۶۰ (Detenus)

The antiquities of Kondapur transferred to Hyderabad Museum are open for inspection to all scholars and tourists and in fact are more easily accessible.

The objects transferred number to several thousands. It is not possible to give a complete list. The relics transferred are of the following types:—

1. Beads.
2. Terracotta figurines.
3. Broken pottery of perforated variety.
4. Incised ware.
5. Painted ware.
6. Ordinary Megalithic ware.
7. Inscribed ware.
8. Riveted ware.
9. Animals, terracotta.
10. Terracotta Amulets.
11. Terracotta cult objects.
12. Beads of Chalcedony, bone, agate, carnelian.
13. Stone axes of various shapes and sizes.

It may be noted that only a few representative specimens of each one of the above categories have been transferred to the Hyderabad Museum while the majority of the objects are still in Kondapur.

(c), (d) and (e): Kondapur has been declared a 'National' site from 1st April, 1950, and all excavation work done there has been stopped. However, the Director, Archaeology has reported that only 7 persons approached him claiming salary for three months from 1st April, 1950. They admitted that though they were not employed on any excavation work during this period, they had looked after the site to avoid cattle trespassing and were claiming salary on this account. Payment to them, therefore perhaps was withheld; because they were not employed with the sanction of competent authority. Nevertheless, the Director, Archaeological Department has been instructed to see that payment of any amount that may be admissible to these labourers should be made immediately and the expenditure incurred might be recovered from the Government of India subsequently.

MEDICAL DEPARTMENT.

*206 (1029) *Shri M. S. Rajalingam*: Will the hon. Minister for Public Health, Medical and Education be pleased to state:

(a) Whether an employee in the Medical Department by name Shri Ramachandra son of Ram Baksh has been posted as Ayurvedic Vaidya at Tekmal, Medak district.

(b) If so, what are his qualifications?

Shri Phoolchand Gandhi: Shri Ramachandra, son of Ram Baksh, is working as Ayurvedic Vaid in the Indian Medicines Department in the grade of Rs. 205-450.

(b) He holds the following diplomas:

Visharad from Dhanwantry Vidyalaya, Hardwar.

Vaid Ratna from Prince Homeo Training College, Meerut.

I.G. AND D.I.G. POSTS.

*207 (1069) *Shrimati A. Kamla Devi*: Will the hon. Minister for Public Health, Medical and Education be pleased to state:

(a) When were the posts of I.G. and D.I.G. created?

(b) Whether the powers of both are identical?

(c) If not, what are the powers of the D.I.G.

(d) Whether the D.I.G. is authorised to delegate his powers to his assistants?

Shri Phoolchand Gandhi: (a) The posts of I.G. and D.I.G.s. were created on the 9th June, 1950 and 2nd August, 1950 respectively replacing the Director and Deputy Director, Medical and Public Health. The posts of I.G. and D.I.G.s. were created for the efficient working of the Medical and Public Health Departments.

(b) The powers rest with I.G. only. The D.I.G.s. only work as deputies.

(c) There are no separate powers for D.I.G.s.

(d) Does not arise. I.G. has the authority to ask any Assistant to help him in the office.

The antiquities of Kondapur transferred to Hyderabad Museum are open for inspection to all scholars and visitors and in fact are more easily accessible.

The objects transferred number to several thousands and it is not possible to give a complete list. The relics transferred are of the following types:—

1. Beads.
2. Terracotta figurines.
3. Broken pottery of perforated variety.
4. Incised ware.
5. Painted ware.
6. Ordinary Megalithic ware.
7. Inscribed ware.
8. Rivetted ware.
9. Animals, terracotta.
10. Terracotta Amulets.
11. Terracotta cult objects.
12. Beads of Chalcedony, bone, agate, carnelian, etc.
13. Stone axes of various shapes and sizes.

It may be noted that only a few representative specimens of each one of the above categories have been transferred to the Hyderabad Museum while the majority of the objects are still in Kondapur.

(c), (d) and (e): Kondapur has been declared a 'National' site from 1st April, 1950, and all excavation work done there has been stopped. However, the Director of Archaeology has reported that only 7 persons approached him claiming salary for three months from 1st April, 1951. They admitted that though they were not employed on any excavation work during this period, they had looked after the site to avoid cattle trespassing and were claiming salary on this account. Payment to them, therefore perhaps was withheld; because they were not employed with the sanction of competent authority. Nevertheless, the Director, Archaeological Department has been instructed to see that payment of any amount that may be admissible to these labourers should be made immediately and the expenditure incurred might be met by the Government of India subsequently.

MEDICAL DEPARTMENT.

*206 (1029) *Shri M. S. Rajalingam*: Will the hon. Minister for Public Health, Medical and Education be pleased to state:

(a) Whether an employee in the Medical Department by name Shri Ramachandra son of Ram Baksh has been posted as Ayurvedic Vaidya at Tekmal, Medak district.

(b) If so, what are his qualifications?

Shri Phoolchand Gandhi: Shri Ramachandra, son of Ram Baksh, is working as Ayurvedic Vaid in the Indian Medicines Department in the grade of Rs. 205-450.

(b) He holds the following diplomas:

Visharad from Dhanwantry Vidyalaya, Hardwar.

Vaid Ratna from Prince Homoeo Training College, Meerut.

I.G. AND D.I.G. POSTS.

*207 (1069) *Shrimati A. Kamla Devi*: Will the hon. Minister for Public Health, Medical and Education be pleased to state:

(a) When were the posts of I.G. and D.I.G. created?

(b) Whether the powers of both are identical?

(c) If not, what are the powers of the D.I.G.?

(d) Whether the D.I.G. is authorised to delegate his powers to his assistants?

Shri Phoolchand Gandhi: (a) The posts of I.G. and D.I.G.s. were created on the 9th June, 1950 and 2nd August, 1950 respectively replacing the Director and Deputy Director, Medical and Public Health. The posts of I.G. and D.I.G.s. were created for the efficient working of the Medical and Public Health Departments.

(b) The powers rest with I.G. only. The D.I.G.s. only work as deputies.

(c) There are no separate powers for D.I.G.s.

(d) Does not arise. I.G. has the authority to ask any

*247 (1071) *Shri K. Anant Ram Rao*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether the Government propose to start project on Moosi river at Chittalur village, Naigra district?

(b) If so, whether its survey has been undertaken?

Shri Mehdi Nawaz Jung: In view of the answer to question No. 1070, the question of constructing a project at Chittalur on the same river does not arise:

(b) In view of reply to (a), this does not arise.

OFFICERS IN PRIVATE BUILDINGS

*248 (738) *Shri G. Hanmant Rao*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) The annual rent paid by the Department on offices housed in private buildings?

(b) The annual rent the Department collects from Public Works Department Buildings given out on rent?

Shri Mehdi Nawaz Jung: (a) Rs. 21,852 P. A. excluding Aurangabad Circle from which information is still awaited.

(b) Rs. 1,10,754-8-4 P. A. excluding Medak, Karimnagar, Nizamabad, Adilabad and Gulbarga divisions from which information is still awaited.

ROAD FROM LOHA TO GANGAKHED

*249 (1043) *Shri R. P. Deshmukh*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) When was the contract to construct a road from Loha to Gangakhed given and for how much?

(b) How much money has been spent on the above work so far?

(c) When will the work be completed?

Shri Mehdi Nawaz Jung: The work was let out on 1356 Fasli (January, 1947) for a contract sum of Rs. 13.00 lakhs.

(b) Rs. 4,01,223 to the end of October, 1952.

(c) The work is expected to be completed by the end of 1955.

ROAD FROM PARLI TO PARBHANI

*250 (1044) *Shri R. P. Deshmukh*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Government have sanctioned the construction of road from Parlivaidyanath to Parbhani via Dharsur?

(b) If so, what will be the expenditure thereon?

Shri Mehdi Nawaz Jung: (a) No.

(b) This does not arise in view of (a).

CONSTRUCTION OF WATER TANK

*251 (1046) *Shri R. P. Deshmukh*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether the Government have any scheme of constructing a water tank in the area of Isad, Makhan and Pimpaldari in Gangakhed taluk?

(b) If so, what is the amount sanctioned for the above work?

Shri Mehdi Nawaz Jung: (a) No.

(b) In view of reply to (a), this question does not arise.

SIDDIPET PROJECT

*252 (1092) *Shrimathi Kamaladevi*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

When do the Government propose to start the construction of Siddipet project?

Shri Mehdi Nawaz Jung: There is no such project as above.

TANKS IN NALGONDA DISTRICT

*253 (1093) *Shrimathi Kamaladevi*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether and if so how many tanks, Government propose to construct in each taluk of Nalgonda district?

*247 (1071) *Shri K. Anant Ram Rao*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether the Government propose to start a project on Moosi river at Chittalur village, Nalgonda district?

(b) If so, whether its survey has been undertaken?

Shri Mehdi Nawaz Jung: In view of the answer to question No. 1070, the question of constructing a project at Chittalur on the same river does not arise:

(b) In view of reply to (a), this does not arise.

OFFICERS IN PRIVATE BUILDINGS

*248 (738) *Shri G. Hannanth Rao*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) The annual rent paid by the Department on offices housed in private buildings?

(b) The annual rent the Department collects from Public Works Department Buildings given out on rent.

Shri Mehdi Nawaz Jung: (a) Rs. 21,852 P. A. excluding Aurangabad Circle from which information is still awaited.

(b) Rs. 1,10,754-8-4 P. A. excluding Medak, Karimnagar, Nizamabad, Adilabad and Gulbarga divisions from which information is still awaited.

ROAD FROM LOHA TO GANGAKHED

*249 (1043) *Shri R. P. Deshmukh*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) When was the contract to construct a road from Loha to Gangakhed given and for how much?

(b) How much money has been spent on the work so far?

(c) When will the work be completed?

Shri Mehdi Nawaz Jung: The work was let out at Islahdar, 1856 Fasli (January, 1947) for a contract sum of Rs. 13.00 lakhs.

(b) Rs. 4,01,223 to the end of October, 1952.

(c) The work is expected to be completed by the end of 1955.

ROAD FROM PARLI TO PARBHANI

*250 (1044) *Shri R. P. Deshmukh*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Government have sanctioned the construction of road from Parlivaidyanath to Parbhani via Dharsur?

(b) If so, what will be the expenditure thereon?

Shri Mehdi Nawaz Jung: (a) No.

(b) This does not arise in view of (a).

CONSTRUCTION OF WATER TANK

*251 (1045) *Shri R. P. Deshmukh*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether the Government have any scheme of constructing a water tank in the area of Isad, Makhain and Impaldari in Gangakhed taluk?

(b) If so, what is the amount sanctioned for the above work?

Shri Mehdi Nawaz Jung: (a) No.

(b) In view of reply to (a), this question does not arise.

SIDDIPET PROJECT

*252 (1092) *Shrimathi Kamaladevi*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) When the Government propose to start the construction of Siddipet project?

Shri Mehdi Nawaz Jung: There is no such project as Siddipet.

TANKS IN NALGONDA DISTRICT

*253 (1063) *Shrimathi Kamaladevi*: Will the hon. Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether and if so how many tanks, Government propose to construct in each taluk of Nalgonda district?

"That L. A. Bill No. XLI of 1952, a Bill to apply to the State of Hyderabad certain Central Acts affecting Hindu and Muslim Law, be read a second time?"

Mr. Speaker: The question is,

"That L. A. Bill No. XLI of 1952, a Bill to apply to the State of Hyderabad certain Central Acts affecting Hindu and Muslim Law, be read a second time".

THE MOTION WAS ADOPTED

AMENDMENTS-SCHEDULE

Shrimatihi A. Kamala Devi (Aler): Sir, I beg to move:

"That to section 2 of Act XII of 1928 shown as Annexure 'A' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely, 'provided that the word property includes Agricultural land' be added".

Mr. Speaker: Amendment moved:

"That to section 2 of Act XII of 1928 shown as Annexure 'A' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely, 'provided that the word property includes Agricultural land' be added".

శ్రీ మల్లి కుమార్ తమిత్తాచిన

102

“అద్దము ఉండి. కొన్ని, “అద్ద” లో “ధూమి” తేరణిపడంతే ఆడువానం తలగు కుట్టాలు కుట్టాలు, ధూమివిధాను” అట్టి, స్త్రీకి ఉన్నాయిను లేకుడై చేసి.. కుట్టాలుగారి కుట్టాలు, ఏప్పుడూ దూషినిపాడు. తర్వాతి రెప్పుళ నానిపండితాన్నికి చూసు బొసిస్తున్న కుట్టాలు.

شری گو بال رائے اکبو نے مہ سٹر اسپیکر کو مرس۔ یہ امندمنٹ کسی تدریخ نامہ تہی کے
تحت مسودہ (Move) کی گئی تھے۔ ہندو و وومنس دیشٹ ٹو پرایونی ایکٹ مینے ۱۹۳۵ء کے
مسلسلہ میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا اگر یک لچرل لینڈ تو کوئی اس میں شامل کیا جاسکتا ہے
یا نہیں۔ ری گروپ آف دی لیس ابی ایشیز ایکٹ (Removal of disabilities Act)
کے تحت پیدا ہیں ہوتا۔ ہندو و وومنس دیشٹ ٹو پرایونی ایکٹ کے مطابق یہ بحث کے
میں ٹے اپنی پہنچ تقدیر میں کہا تھا کہ اگر یک لچرل پرایونی شامل کی گئی تہیں تو اپنے
میں اگر یک لچرل لینڈ شامل ہے یا نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۴۹ء
کا جو ایکٹ تھا اسکے تحت ہندو و وومنس دیشٹ کے بارے میں فائدہ کوئٹ کو کوئٹ کو روپ
کیا گیا تھا فائدہ کوئٹ کوئٹ نے اس مسلسلہ میں جو چیز دیا تھا اسکا کوئٹ تھا۔ یہ ری گروپ
آف دیس ابی ایشیز ایکٹ سے نہیں ہے۔ شہر کی کوئی فرورت نہیں ہے ایسی ترمیم کو
تعالیٰ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ آئئے جو امندمنٹ ایشیز کیا جا رہا ہے نہیں اسکی خلاف
کہتا ہوں۔

مہمنٹ اسپنکر - آئریل سیوس نے اپنی ابتدائی تقریر میں اس طرف اشارہ کیا تھا۔

شہری اسے - راج ریڈی - جی ٹاک - اس ایکٹ کو میں نے دیکھا - اس تکمیل نظر سے اونچ خیال کی ترمیم کرنا ہوں -

Srimati A. Kamala Devi: Sir, I want to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker: Does Smt. Arutla Kamaladevi want to move her second amendment?

Smt. A. Kamaladevi: I do not want to move that amendment.

Mr. Speaker: What about the third amendment?

Smt. A. Kamaladevi: I want to move it. I beg to move:

"That to Section 3 of Act No. XVIII of 1937 shown is Annexure 'C' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely—

"That L. A. Bill No. XLI of 1952, a Bill to apply in the State of Hyderabad certain Central Acts affecting Hindu and Muslim Law, be read a second time?"

Mr. Speaker: The question is,

"That L. A. Bill No. XLI of 1952, a Bill to apply to the State of Hyderabad certain Central Acts affecting Hindu and Muslim Law, be read a second time".

THE MOTION WAS ADOPTED
AMENDMENTS-SCHEDULE

Shrimathi A. Kamala Devi (Aler): Sir, I beg to move.

"That to section 2 of Act XII of 1928 shown as Annexure 'A' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely, 'provided that the word property includes Agricultural land' be added".

Mr. Speaker: Amendment moved:

"That to section 2 of Act XII of 1928 shown as Annexure 'A' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely, 'provided that the word property includes Agricultural land' be added".

శ్రీనాథి ఆదుచ్చ కవితలేని 11

๙๕, ๙๕,

ఎన్నో పంచుక్కరుమాలనునీ, ఇవేరట దొడ్డు ప్రభుత్వా... వ్రిశ్చతిని అణవిపట్టి ఉంపియి
ప్రభుత్వా స్థీల్చర్ జంగ్ ఒబ్జెక్యులములు దూరము వేయిపోటి యి ప్రభుత్వా స్థీల్చ
కేని కాంచిని ముంచుకు రేపుకపో దెలిపింది గుసుక “అణ్ణ” లో భూమిని చేపట్టిపోలుచు
ప్పులు వేసిపెట్టుపోతాయి. పఠ పైప్ దర్శకులో కాలిషుణికి స్తోరాస్తీగా భూమి ఉ
“అణ్ణ” అంచై అడవితో “భూమి” కూడ పస్తుంది. అని ఆనకటంలే దాచి

L.A. Bill No. XLI of 1952,
the Hyderabad (Application of
Central Acts) Bill

ముఖము ఉంది, కాబట్టి, “అప్పి” కి “ధూమి” చేరకిపోడయిచేసే అనుమానం తలగు
కుమ్మలు కొబట్టి, ధూమినిఱడా చేర్చి, ప్రియికి ఎవ్వాడుమన లేకుండ” మేలు తలగిశ్శురచి
అప్పకంటూ, అప్పకారం ధూమినికుడై వేంటలుభిరచ్చిన వాసవరంజు బట్టు కోపాలి కామిష్టు
ప్రయత్నించాడు.

شری گو بال را آکیو ہے۔ مسٹر اسپیکر مرد نے اپنائی تھی کہ اسی قدر خالہ فہری کے
حقوق موف (Move) کی گئی ہے۔ ہندو وومنز رائیٹ ٹو پر اپری ایکٹ سنہ ۱۹۷۲ء کے
سلسلہ میں یہ جت پیدا ہوئی کہ کیا اگریکاچرل لینڈ کو بھی اس میں شامل کیا جاسکا گے
یا نہیں ری مول آف دی اس اپی لیشن ایکٹ (Removal of disabilities Act)
کے تحت پیدا نہیں ہوتا۔ ہندو وومنز رائیٹ ٹو پر اپری ایکٹ کے ساتھ میں جیسا کہ
میں نے اپنی پہلی تعریر میں کہا تھا کہ اگریکاچرل پر اپری شامل کی گئی تو یہ ایکٹ
میں اگریکاچرل لینڈ شامل ہے یا نہیں یہ موال پیدا ہوتا گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۷۵ء
کا جو ایکٹ تھا اسکے تحت ہندو وومنز رائیش کے نارے میں قدریں کورٹ کو زیر
کیا گیا تھا فیڈرل کورٹ نے اس نتیجہ میں جسمیت دیا تھا اسکا کوئی تعاقی ری مول
اک اس اپی لیشن ایکٹ سے نہیں ہے۔ شہ کی کوئی خروزت نہیں ہے اسی ترتیب کو
معقول ترجیباً صحیح ہے۔ اصلخ چو اسٹڈنٹ پیش کیا جا رہا ہے میں اسکی مخالفت
کرتا ہوں۔

سینئر اسپنسر - انگریل ممبر نے اپنی ابتدائی تقریر میں اس طرف اشارہ کیا تھا۔

شری اے - راج ریڈی - جی هاں - اس اپکٹ کو میں نے دیکھا - اس لکھنے لئے
اپنے خیال کی ترسیم کرتا ہوں -

Shrimati A. Kamala Devi: Sir, I want to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker: Does Smt. Arutla Kamaladevi want to move her second amendment?

Smt. A. Kamaladevi: I do not want to move that amendment.

Mr. Speaker: What about the third amendment?

Smt. A. Kamaladevi: I want to move it. I beg to move:

"That to Section 3 of Act No. XVIII of 1937 shown as Annexure 'C' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely—

'provided that the word property in this section includes agricultural land',
be added."

Mr. Speaker: Amendment moved:

"That to Section 3 of Act No. XVIII of 1937 shown as Annexure 'C' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely—

'Provided that the word property in this Section includes agricultural land'

be added."

شروعی کو پال راؤ اکبو شے ایک چیز میں واضح کرنا چاہا ہوں - ہندو ویشن والیں اور پراپرٹی ایکٹ کے سلسلہ میں گوزر جنل نے فیدرل کورٹ سے ریفینس Reference کیا تھا جہاں یہ طی پایا کہ پراپرٹی کی تعریف میں اگریکلچرل شعبہ شامل ہے اور اس طرح وہ یعنی اگریکلچرل لینڈ کے تعلق سے سٹر کو قانون کی کا حق نہیں ہے۔ اسیٹ لیجیسٹریشن اسٹرے ضروری ہوا کہ وہاں کا قانون متعلقہ حکومتی میں وہ قانون منظوری کے لئے پیش ہوا اور ۱۳۔ اپریل سنہ ۱۹۴۷ع کو کوئی قابل کی منظوری حاصل ہوئی۔ اس مسئلہ میں یہ اسیٹل ویفرنس فیدرل کورٹ کے نہایت دو اشوز (Issues) کے لئے اگریکلچرل لینڈ وہاں اگریکلچرل لینڈ۔

Property includes Agricultural land
محدث (Proviso) میں دیا ہے اسکے بعد مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وچار میں ہاؤس کے مانتے رکھتا ہوں۔ اسیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس امندمنٹ کی ضرورت ہاتھ نہیں رہتی۔

شروعی اسے - راج ریڈی - سٹر اسیکردر - آپریل صوبہ چادر گیا۔ اسے جیسا کہ وہدت کی چونکہ ہم یہ بل اس لیجیسٹریشن (Legislature) میں لارہے۔

اے اس لحاظ سے جب مرکزی حکومت کے قانون کے لحاظ سے اگریکلچرل لینڈ اس بول شامل ہے اور لفظ پراپرٹی میں یہ چیزیں آجائی ہیں، اسیٹ کی صراحت کی گورنمنٹ کو اس میں ہے۔ میں اون سے اس پارک میں بالکل متفق ہوتا ہوں جو حکومت کی جانب ایک اندھینٹنٹ بل (Independent Bill) پیش کیا گیا ہو۔

اس صورت میں لفظ پراپرٹی کی تعریف اگریکلچرل لینڈ پر بھی صادق آئی جیسا کہ لفظ تغیر و اطلاق میں اسکی تعبیر کی گئی ہے۔ لیکن سٹر کا حوالہ دیکھ اس قانون کو جس طرح لایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سٹر کے اس قانون کا مطلب حیدر آباد پر پراپرٹی کے تعلق سے کچھ اور ہوگا اور دوسری جگہ کچھ اور مختلف لیا جائیگا میں

نہیں سمجھتا کہ گوزنٹ اف انڈیا ایکٹ، ۱۹۳۵ کے لحاظ سے ہر اپرٹی کی تعریف کیوں ایک طرح کی جائے اور کہیں دوسری طرح سے محض اسلائے کہ ہم نے اسکو اپنے (کریا، یہ صحیح نہیں ہو۔) Adopt

A Bill to apply to the State of Hyderabad certain Central Acts.

حکومت پورا مرکزی قانون یہاں نافذ کرنے نہیں چاہ رہی ہے بلکہ صرف سکرپٹ (۲) ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح کی تدوین سے قانونی الفاظ کے معنی نہیں بدلتے۔ قانون کے تقاض کے وقت واضعان قانون کے معاشر جو منشاً اس قانون کے نافذ کرنے کا تھا، نہیں پہل سکتا۔ محض اسلائے کہ چونکہ حکومت نے اس قانون کو ادا بھا (Adopt) کیا ہے اسلائے اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ یہ اندھینٹنٹ (Independent) قانون ہے، اسیکا مطلب یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو، یہ صحیح نہوگا۔ اگر کوئی وہ سمجھیں تب بھی دنک و شبہ کو دور کرنے کے لئے اسکی صراحت کیوں نہ کی جائے اگر اسکی مزید صراحت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اس لحاظ سے میں کہونکا کہ اس پروویزو (Proviso) کو جو اس امندمنٹ کے ذریعہ اس بکھر میں Add کیا جائے کہا ہے منظور کیا جانا چاہئے۔

شروعی اسے - راج ریڈی - وہاں بھی ایسا ہے۔ پراپرٹی کا جو لفظ ہے آپریل سنہ ۱۹۴۷ع میں اپنی ابتدائی تحریر میں بجا ہے کہ جاندار متنولہ وغیر متنولہ دونوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسیکے اس میں دونوں چیزیں آجائی ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اس میں ترمیمات ہوئی ہیں۔ محض ایکٹ کو جوں کا توں متعلق کر کے قانون تغیر و اطلاق کی دفعہ میں ترمیم کر دیئے ہے اسکے معنی نہیں پہنچ جاسکتے۔ دوراثیں البتہ ہوسکنی ہیں لیکن کوئی راستہ صحیح ہے، اس وقت میں نہیں کہ سکتا۔ بھر یہ ہوگا کہ صراحت کی خاطر اس پروویزو (Proviso) کو منظور کر لیا جائے تو کہیں جن نہیں ہوگا۔

شروعی اسے - رام کشن راؤ - میں سمجھتا ہوں آپریل صوبہ جنہیں سے اپنی قلم شہزادی وہ اس ایام سیدھے رہے ہیں اس پارک پر کہ پہلی روشنگ میں ایک دن ۱۹۴۷ء ایکٹ کے تصفیہ کیا گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اپنام کی گنجائش ہے۔ ایکٹ ۱۹۳۵ء کے پارک میں جو فیصلہ فیدرل کورٹ کا ہوا ہے اوس کے مدنظر یہ سمجھا کہ اگریکلچرل لینڈ اس میں شریک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری تشویش یہ ہے کہ چونکہ سٹر ایکٹ کا قام لیکر اپلانی کر رہے ہیں اس وقت سٹرل ایکٹ

'provided that the word property in this section includes agricultural land',
be added."

Mr. Speaker: Amendment moved:

"That to Section 3 of Act No. XVIII of 1937 shown as Annexure 'C' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely—

'Provided that the word property in this Section includes agricultural land'

be added."

شری گوپال راؤ کوئے۔ ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہندو و دومنی والٹ نو پر اپنی ایکٹ کے ساتھ میں گورنر جنرل نے فیڈرل کورٹ میں ریفرننس Reference لیند بھی شامل ہے اور اس طرح وہ یعنی اگر کلکچرل ایڈ کے تعلق میں سنٹر کو قانونی ماری کا حق نہیں ہے۔ اسٹٹ لیجسلیشن اسائی ٹروروی ہوا کہ وہاں کہ قانون مستعاری میں ہو گا ٹروروی میں وہ قانونی منظوری کے لئے پیش ہوا اور ۲۷ اپریل سنہ ۲۰۱۶ کو گورنر جنرل کی منظوری حاصل ہوئی۔ اس ساتھ میں یہ اسٹٹ لیجسلیشن فیڈرل کورٹ کے کھا گیا۔ دو اشووز (Issues) کے لئے اگر کلکچرل ایڈ و نان اگر کلکچرل ایڈ۔ اسٹٹ لیجسلیشن لینڈ کے تعلق میں اسٹٹ کو حق ہے کہ قانون بنائے۔ پر اپنی کا ذیلیتیں میں (Property includes Agricultural land) میں نہ ہونس دیا ہے اسکے بعد مزید و تفاصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وچار میں ماؤں کے سائی رکھتا ہوں۔ اسائی میں سمجھتا ہوں کہ اس امنڈمنٹ کی ضرورت باقی تھیں رہتی۔

شری اے۔ راج دیلی۔ سٹر ایسیکرر۔ آئریل میر جاڑ گھبائی نے جیسا کہ و تفاصیل کی چونکہ ہم یہ دل اس لیجسلیشن (Legislature) میں لا رہے

نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ آف انڈیا اپنکٹ، ۱۹۳۵ کے لحاظ سے پر اپنی کمیں ایک طرح کی جائے اور کمیں دوسری طرح سے عذر لئے کہ ہم نے اسکو ادا کر لیا، یہ صحیح نہیں ہوا۔

A Bill to apply to the State of Hyderabad certain Central Acts.

حکومت اور اس کمزی قانون پر نافذ کرنے نہیں چاہ رہی ہے بلکہ صرفہ سکھ
 (ب) ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح کی تدوین سے قانونی الفاظ کے معنے نہیں بدلتے۔ قانون
 کے نفاذ کے وقت واضعان قانون کے سامنے جو منشاً اس قانون کے نافذ کرنے کا تھا
 نہیں بدال سکتا۔ محض اس لمحے کے جزوئے کہ جو نیکہ حکومت نے اس قانون کو اذایت (Adopt
 Independent) کیا ہے اس نے اور اگر یہ تو خود کیا جائے کہ یہ اندیشناٹ (Advi-
 ce Board) کا مطلب یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو، یہ صحیح نہیں۔ اگر کمزی
 یہ سمجھنیں تب بھی شک و شبہ کو دور کرنے کے لئے اسکی صراحت تکیوں نہ کی جائے
 اگر اسکی سیدھی صراحت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اس لحاظ سے میں کھوٹا کہ، اس
 اروڑو بڑو (Proviso) کو جو اس اندیشناٹ کے ذریعہ اس سکھنے یا
 (Add) کیا جائے کیا ہے مبتلوا کیا جانا چاہئے۔

Mr. Speaker: Is the word 'property' defined there in that particular Act?

شری اسے راج روڈی۔ وہاں بھی ایسا ہے۔ پر اپنی کا جو لفظ ہے اُڑیں میں
لے اُنی اپنی تقریر میں بتایا ہے کہ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ دونوں اُن میں دلم
ہو جاتے ہیں۔ انشاء اُن میں دونوں چیزوں آجاتی ہیں تم لیکن یہ سری جگہ اُن میں
ترسیمات ہوتی ہیں۔ بعض ایکٹ کو جوں کا توں منتعل کر کے قانون تعمیش و اعلان کی
دینے میں توسم کر دیتے ہے اسکے معنی نہیں بلکہ جاسکتے۔ دو رائیں البتہ ہو سکتی ہیں
لیکن کوئی نی رائے صحیح ہے، اس وقت ہیں تھیں کہہ سکتا۔ یہ تو یہ ہو گا کہ میرام
کی حاضر اُر پروviso (Proviso) کو منظور کر لیا جائے اُنہیں۔

شہری پری - رام کسی نہ رکھا - میں سمجھتا ہوں اگر بیل میں جنپور میں ابھی تک
فرمائی ہے میں اب امام سید ہوں اسے ہیں اس لئے ہر کو سمجھی ویلے کو میں دیکھتے
اٹھاؤں تک کوئی تسلیم نہ کیا گیا تھا - میں تبیں سمجھتا ہے میں میں ابھی امام کی کوئی تسلیم
نہ کر سکتے ہیں ایک بھرپور توصیہ فریل کو وہ کہا ہے اوس کی مدد سے میں
کہ اگر کوئی ہر لیندا اس میں شکریک ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے - دوسری جانب
یہ ہم نہ چوکنے سمجھیں لیکن کام لیکر ایکلائی کر رکھے ہیں اور وقت سترے کا لیکن

لے جو وائسنا () تھے اس کو لیا جائیکا۔ میں کہوں گا کہ اب تاہمیں
کہ اس میں سترل ایکٹ کے الفاظ لیکر سکشن ۲ کو ہم نے بدل دیا ہے۔ اوس بنیادی
ایکٹ میں ترمیم نافذ کر کے اوس کو بدل دیا گیا اور اب وہ حیدرآباد یونیورسٹی کا
ایکٹ ہو گا۔ ہم سکشن ۲ کو بدل رہے ہیں میں بنکہ اگر غرض کیا جائے کہ ہم
سکشن ۲ کے ایک لفظ کو بدل رہے ہیں تو اس تبدیلی کے بعد وہ ہمارا ایکٹ ہو گا۔
سننی گورنمنٹ کا ایکٹ نہیں۔ چہ قوانین کو ایک میں لا کر پیش کرنا مقصود تھا اسلئے

ایک اپنی کیشن بیل () Application Bill۔ () ایش کیا گیا ہے۔ لیکن
(Legal) حیثیت سے بھی اس میں کسی اہم کی گنجائش نہیں ہے۔ جب
کسی اہم کی گنجائش اس میں نہیں ہے تو پھر کسی یاراویزو کے لائے کی کیا ضرورت
ہے؟ چونکہ پر اپری کے لحاظ سے اس میں اگر یونیورسٹی لیانہ یعنی داخل ہے، اعلیٰ ہیں
ہیں سمجھتا کہ اس میں کسی یاراویزو کی ضرورت ہے۔ وہ جو قانون ہے وہ ہمارا قانون
ہے۔ پر اپری کا ذیغینہ من () Definition () اس میں داخل

ہر جائیکا۔ محض قیاس و شبہات کی بنا پر اس ایکٹ میں اڈپشن ()
Addition () کروں مناسب نہیں ہے۔ جیکہ اختلاف رائے نہیں ہے اور پر اپری کی تعریف میں اگر یونیورسٹی
لیا داخل ہے تو پھر شیبہ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی طرح سے قیدرول کورٹ کا
جھوٹ () Judgment () جسکا حوالہ دیا گیا ہے متعلق نہیں ہوتا۔
کوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ تمام شبہات جو بدلہ ہو رہے ہیں اون
کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اور دستوری حیثیت سے بھی اس بیل کو پاس کر لیتے ہے
کوئی فرق نہیں پڑتا۔

شری جگناٹھ راؤ چندر کی - چونکہ ابتداء سے بھی اس سلسلہ میں صراحت کردی گئی
کہ اور جنرل کلائز میں پر اپری کی جو تعریف کی گئی ہے وہ لاگو ہو جاتے ہے، اس لئے
کہ امندیٹ غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ اسکے علاوہ امندیٹ جو اس ایکٹ میں ایڈ (Add)
کیا رہی ہے اوس پر بھی سکین (S) لاگو ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس کے اندر آ جاتا
ہے۔ اس لئے میں اس امندیٹ کی مخالفت کرتا ہوں۔

Smt. A. Kamala Devi: I want my amendment to be put to vote.

Mr. Speaker: The question is:

"That to Section 3 of Act No. XVIII of 1937 shown as Annexure 'C' to the Schedule to the Bill, the following proviso, namely—

'Provided that the word property in this Section includes agricultural land'

be added."

The motion was negatived.

Mr. Speaker: I shall now take up Clause 2 first, since there are no amendments.

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill".

Clause 3 was added to the Bill.

Clause I was added to the Bill.

Short title Commencement and Preamble were added to the Bill.

Shri Jagannath Rao Chanderki: Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That L. A. Bill No. XLI of 1952, a Bill to apply to the State of Hyderabad certain Central Acts affecting Hindu and Muslim Law, be read a third time and passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. 41 of 1952, a Bill to apply to the State of Hyderabad certain Central Acts affecting Hindu and Muslim Law, be read a third time and passed."

The motion was adopted.

The House then adjourned till Half past Two of the Clock on Tuesday, the 16th December, 1952.